

برائے فوری اجراء

برامپٹن بڑھوتری اور ترقی کے حوالے سے صوبائی سطح کی رہنماء شخصیات سے ملاقات کر رہا ہے

برامپٹن، آن (14 اگست 2019) – سٹی آف برامپٹن کا وفد صوبائی وزارت کی رہنماء شخصیات سے ذرائع آمد و رفت، نگہداشت صحت، کمیونٹی کے تحفظ، ماحول اور رہائشوں کے شعبوں میں [بڑھوتری کی کلیدی ترجیحات](#) پر بات چیت کرنے کے لیے اوٹاوا میں ملاقات کر رہا ہے۔ مینر پیٹرک براؤن کی رہنمائی میں، سٹی کے افسران فنڈنگ اور اضافی اشتراک کی وکالت کے لیے 18-21 اگست کے دوران ایسوسی ایشن آف میونسپلٹیز آف اونٹاریو (AMO) کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔

انفراسٹرکچر، میونسپل افیئرز اینڈ ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے وزراء اور دیگر وزارتوں کے افسران اور ساتھ ہی ساتھ NDP، لیبرل اور گرین پارٹیوں کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔

سٹی کی جانب سے کلیدی مطالبات میں شامل ہیں:

- برامپٹن ٹرانزٹ کو منصفانہ فنڈنگ کی تفویض اور مین اسٹریٹ پر لائیٹ ریل ٹرانزٹ کے لیے \$1.7 ارب دو طرفہ، پورے دن کی گو سروس کی معاونت میں پراجیکٹس کو تیز کرنا
- برامپٹن ہیلتھ کیئر کے لیے منصفانہ فنڈنگ اور نگہداشت صحت کے کلیدی پراجیکٹس کی ترقی
- میٹروپولیٹن کی املاک کو عوامی مقامات میں تبدیل کرنے کے منصوبوں کے لیے معاونت
- کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ایک کلیاتی طریقہ کار کو ممکن بنانے کے لیے ٹولز اور معلومات شریک کرنا
- ڈاؤن ٹاؤن میں سیلاب سے بچاؤ اور روڑ واک پراجیکٹ کے فروغ کے لیے فنڈنگ
- موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام اور نقصانات سے بچاؤ میں معاونت کے پراجیکٹس اور اقدامات کے لیے مالی معاونت کی فراہمی اور انتظامی معاونت
- بل 108 میں موجود نئے قوانین میں تبدیلیاں، جن سے پارکس، کمیونٹی سنٹر اور لائبریریوں جیسی سہولیات سے ترقیاتی آمدنی حاصل کرنے کی سٹی کی صلاحیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔
- علاقائی حکومت کے ڈھانچے میں مذکورہ بالا تبدیلی، تاکہ برامپٹن کو ریجن آف پیل کونسل میں منصفانہ نمائندگی ملے

برامپٹن کی بڑھوتری کی ترجیحات کے متعلق مزید معلومات کے لیے، [سٹی کی ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

اقتباس

"ہمیں برامپٹن کی ترجیحات اور ویژن کو پورا کرنے کے لیے صوبے کی معاونت اور شراکت داری کی ضرورت ہے۔ ہم تعلقات پیدا کرنے، مسائل پر بات چیت کرنے اور بہتر آمد و رفت، کمیونٹی کے تحفظ، جدت اور ماحول پر مبنی اقدامات کے لیے کلیدی ترجیحات پر کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔"

- مینر پیٹرک براؤن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca